

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس
جامعہ ملیہ اسلامیہ
نئی دہلی
11 نومبر 2020
پریس ریلیز

یوم تعلیم کی مناسبت سے جامعہ میں پروگرام کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے آج ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے قومی یوم تعلیم منایا۔

ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مولانا آزاد کی حیات و خدمات پر آن لائن پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا۔ ڈیپارٹمنٹ کے زیر انتظام تمام پروگراموں کے فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے اس بحث میں حصہ لیا۔

پروفیسر اعجاز مسیح ، ہیڈ ، ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز نے کہا کہ مولانا آزاد نہ صرف ایک اچھے ادیب اور قلم کار و سیاست دان تھے بلکہ ایک عظیم مفکر اور عالم بھی تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کا بہت حامی تھے جن کے نزدیک قوم مذہب سے بالاتر شئے تھی۔

مہمان مقرر جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ اردو کے اسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر خالد میسر تھے۔ ڈاکٹر میسر نے مولانا آزاد کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا آزاد چاہتے تھے کہ اقلیتی برادریوں میں عدم تحفظ کا احساس ختم کیا جائے۔ وہ جامع ثقافت کے حامی تھے اور جدیدیت اور روایت کے مابین توازن قائم کرنے کے خواہاں رہتے۔ وہ آزادی صحافت پر یقین رکھتے تھے ، وہ معاش کمانے کے بجائے شخصیت کی نشوونما پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔

ڈاکٹر ایم جاوید حسین ، اسٹنٹ پروفیسر ، ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز نے مولانا آزاد کے تعلیمی افکار اور آزاد ہندوستان میں قومی نظام تعلیم کی ترقی میں ان کے کردار کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک مذہبی گھرانے میں پرورش پانے اور مذہبیات کی تربیت حاصل کرنے کے باوجود ، آزاد اپنے تعلیمی نظریات میں پرجوش تھے جو روایت اور جدیدیت کے بہترین میل جول کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آزاد نے اپنے ، ٹرانس ماڈرن افکار سے روایت اور جدیدیت کے مابین پُل بنانے کی کوشش کی۔

اسٹنٹ پروفیسر شعبہ ایجوکیشن اسٹڈیز ڈاکٹر سجاد احمد نے مولانا آزاد کے فلسفیانہ افکار پر روشنی ڈالی۔

پروفیسر ہرجیت کور بھائی ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز نے بھی مولانا آزاد کے تعاون پر ایک ویڈیو دکھائی۔

اسسٹنٹ پروفیسر ، ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اسٹڈیز ، ڈاکٹر ہرپریت کور نے مولانا کی پارلیمانی تقریروں سے مثال پیش کی اور اس ضرورت پر زور دیا کہ ان تقاریر کو طلباء سے آشنا کیا جائے۔

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ ایجوکیشن اسٹڈیز ڈاکٹر ارشاد اکرام احمد کے کلمات تشکر سے پروگرام کا اختتام ہوا ۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوارڈینیٹر